

258382- حمل کی وجہ سے عورت بیمار ہو جاتی ہے اور وقتی مانع حمل طریقے کار گر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بیضہ دانی کا منہ باندھنے یا جڑ سے بچہ دانی نکالنے کا حکم

سوال

سوال: میری اہلیہ کی عمر 30 سال ہے اور وہ اپنے پانچویں بچے کے ساتھ امید سے ہے، میری اہلیہ کے ساتھ کوئی بھی مانع حمل ذریعہ کارگر نہیں ہوتا، ہم نے کئی طریقوں کو متعدد بار آزما لیا ہے، یا تو ان کے جسم میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا پھر وہ امید سے ہو جاتی ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ بیمار ہے؛ کیونکہ بغیر کسی وقفے کے اسے حمل ہو جاتا ہے، تو اگر ہم بیضہ دانی کا منہ باندھ کر یا بچہ دانی ختم کر کے دائمی طور پر بچے پیدا کرنے سے چھٹکارا پالیں تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب کا خلاصہ

اگر معتد اطباء یہ کہیں کہ حمل کی وجہ سے آپ کی بیوی کو سخت نقصان ہوگا تو تولیدی صلاحیت ختم کرنے کی اجازت ہے۔۔

پسندیدہ جواب

افزائش نسل کے ساتھ انسانیت کی بقا بھی شادی کے شرعی مقاصد میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ تولیدی صلاحیت صرف انتہائی درجے کی ضرورت پر ہی ختم کی جاسکتی ہے۔

تاہم معین وقت کیلئے تولیدی صلاحیت کو موقوف کر دینے والی اشیاء استعمال کرنا جائز ہے، جسے مانع حمل ادویات کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔

اسی لیے اگر متعلقہ خاتون کیلئے کسی معتد ڈاکٹر سے مانع حمل انجیکشن کی افادیت، فعالیت اور موزونیت کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔

اسلامی فقہ اکیڈمی کی افزائش نسل کو منظم بنانے کے متعلق قراردادوں میں ہے کہ:

"دوم: اس وقت تک مرد یا عورت کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جڑ سے ختم کرنا حرام ہے۔ جسے مصنوعی بانجھ پن یا مصنوعی نامردی کہا جاتا ہے۔ جب تک کہ شرعی معیار کے مطابق کوئی ضرورت نہ ہو۔"

سوم: دو حمل کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ایسا وقتی طور پر کرنا جائز ہے، یا جب شرعی طور پر کوئی معتبر ضرورت پیش نظر ہو تو پھر بھی وقتی طور پر حمل ٹھہرنے سے روکنا جائز ہے، تاہم اس میں بھی خاوند اور بیوی دونوں کا مشورہ اور رضامندی ضروری ہے بشرطیکہ اس میں کوئی نقصان مرتب نہ ہو، اور پھر حمل روکنے کا ذریعہ بھی شرعی ہونا چاہیے، اور ٹھہرا ہوا حمل ضائع کرنا درست نہیں ہے "انتہی

مجلد الجمع: شماره نمبر (4) جلد نمبر (1) صفحہ نمبر (73)

چنانچہ اگر معتمد اطباء یہ فیصلہ کریں کہ ولادت سے زچہ کو نقصان ہوگا یا بیماری میں اضافہ ہوگا، یا حمل کی وجہ سے یا وضع حمل کی وجہ سے وفات کا خطرہ ہے تو پھر خاوند کی رضامندی سے حمل گرانا جائز ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس نے دس بچوں کو جنم دیا اور اب حمل کی وجہ سے اسے نقصان ہونے لگا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ آپریشن سے بیضہ دانی کا منہ باندھ دیا جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟

اس پر انہوں نے جواب دیا:

"مذکورہ آپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کہ معتمد اطباء یہ فیصلہ کریں کہ مزید بچے پیدا کرنے سے نقصان ہوگا، لیکن یہ آپریشن خاوند کی اجازت سے ہی کیا جائے گا" انتہی
فتاویٰ المرأة المسلمة (5/978)

اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ:

"تولیدی صلاحیت ختم کرنے کیلئے رحم کو مکمل طور پر نکالنے کا کیا حکم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ طبی اور سائنسی رپورٹوں کی بنا پر موجودہ اور مستقبل میں طبی وجوہات کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرنے دیا جائے۔"

تو انہوں نے جواب دیا:

"اگر واقعی کوئی ضرورت ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، بصورت دیگر ایسا نہ کرنا واجب ہے؛ کیونکہ شریعت افزائش نسل کی خوب ترغیب دلاتی ہے اور امت کی افرادی قوت میں اضافے کی دعوت دیتی ہے، لیکن اگر رحم نکالنے کی سخت ضرورت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح شرعی مصلحتوں کے پیش نظر وقتی طور پر مانع حمل ادویات دینے کی بھی اجازت ہے"

انتہی

فتاویٰ شیخ ابن باز (434/9)

اور شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"حمل کی صلاحیت بالکل ختم کرنے یا حمل وقتی طور پر روکنے کیلئے آپریشن کرنا جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی سخت ضرورت ہو، اور معتمد اطباء یہ کہیں کہ ولادت کی وجہ سے کمزوری ہو جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی یا زچہ کے حاملہ ہونے یا وضع حمل سے مرنے کا خطرہ ہو تو جائز ہے۔"

لیکن حمل کی صلاحیت مکمل ختم کرنے یا عارضی طور پر روکنے کیلئے بھی خاوند کی اجازت ضروری ہے، چنانچہ جیسے ہی حمل روکنے کی وجوہات زائل ہوں تو خاتون کو دوبارہ سے تولیدی صلاحیتوں کے قابل کیا جائے گا" انتہی

فتاویٰ المرأة المسلمة (2/977)

اس بنا پر:

اگر معتمد اطباء یہ کہیں کہ حمل کی وجہ سے آپ کی بیوی کو سخت نقصان ہوگا تو تولیدی صلاحیت ختم کرنے کی اجازت ہے۔

واللہ اعلم